




2021

Directors Report



For the nine months &
quarter ended
March 31, 2021



مینجمنٹ کمپنی کے ڈائریکٹرز کی رپورٹ

فیصل ایسٹ منجمنٹ لمیٹڈ کے ڈائریکٹرز، مندرجہ ذیل فنڈز کی مینجمنٹ کمپنی 31 مارچ 2021 کو ختم ہونے والے نو مہینوں کے لئے ٹھوس عبوری اکاؤنٹس کے ساتھ ساتھ زیر انتظام فنڈز کی کارروائیوں کے بارے میں نو ماہ کی رپورٹ پیش کرنے پر خوش ہیں۔

ایکویٹی فنڈز

- ☆ فیصل اسٹاک فنڈ
- ☆ فیصل ایسٹ ایلوکیشن فنڈ
- ☆ فیصل اسلامی ڈیڈ کیپیٹل ایکویٹی فنڈ
- ☆ فیصل فنانشل ویلیو فنڈ
- ☆ فیصل اسلامک اسٹاک فنڈ

فکسڈ انکم فنڈز

- ☆ فیصل سیوننگز گروتھ فنڈ
- ☆ فیصل اسلامک سیوننگز گروتھ فنڈ
- ☆ فیصل منی مارکیٹ فنڈ
- ☆ فیصل فنانشل سیکر آپرچوٹی فنڈ
- ☆ فیصل اسلامی ایسٹ ایلوکیشن فنڈ
- ☆ فیصل ایم ٹی ایس فنڈ
- ☆ فیصل حلال آمدنی فنڈ
- ☆ فیصل گورنمنٹ سیکورٹیز فنڈ
- ☆ فیصل اسلامک کیش فنڈ
- ☆ فیصل انکم اینڈ گروتھ فنڈ
- ☆ فیصل کیش فنڈ

فنڈز کی فنڈز

- ☆ فیصل شریعہ پلاننگ فنڈ
- فیصل شریعہ کیپیٹل پریزرویشن پلان
- فیصل شریعہ کیپیٹل پریزرویشن پلان 2
- ☆ فیصل اسلامی مالیاتی منصوبہ بندی فنڈ

فیصل شریعہ کمیٹی پر ریزرویشن پلان 3	-
فیصل شریعہ کمیٹی پر ریزرویشن پلان 4	-
فیصل شریعہ کمیٹی پر ریزرویشن پلان 5	-
فیصل شریعہ کمیٹی پر ریزرویشن پلان 6	-

☆ فیصل فنانشل پلاننگ فنڈ

فیصل ایکٹو پرنسپل پر ریزرویشن پلان	-
------------------------------------	---

معاشی جائزہ:

حکومت کی طرف سے ایک مضبوط مربوط پالیسی ردعمل (تعمیرات اور زراعت کے پیکیجز، جی ڈی پی کا 2.5% فیصد مالیاتی ریلیف پیکیج، قرض التوا) اور مارچ (جون-20) کے دوران پالیسی کی کلیدی شرح کو 625 ٹی پی ایس نے کم کرنے کے علاوہ مختلف ترتیبی اقدامات اور مراعات کی پیش کش کی۔ صنعت، مثال کے طور پر TERF) مجموعی طور پر جی ڈی پی کا 4.8% فیصد (PKR1.99tn) اور لاک ڈاؤن پابندیوں میں نرمی کے ساتھ معاشی نمو کو بحران کے گہوارے سے باز آؤٹ کرنے میں مدد ملی ہے۔ اقتصادی سرگرمی میں نمایاں بہتری کا اعادہ اعلیٰ تعداد ڈیٹا پوائنٹس کے ذریعے ہوا ہے۔ 8MFY21 میں مقامی سینٹ/ HSD/ MOGAS/ بالترتیب 15/ 16/ 8 YOY ÷ بڑھ گئے۔ اس پس منظر میں، جولائی 20 تا جنوری 21 کے دوران صنعتی سرگرمی نے ایل ایس ایم کی حیثیت اختیار کی ہے جبکہ پچھلے سال اسی عرصے کے دوران 3.36% / 7.85% / 7.85% اضافہ ہوا ہے۔ یہ وسیع البیاد تھا لیکن اس کی بڑی تعمیراتی، خوراک، آٹوموبائل اور نیکیسٹائل کے شعبوں میں ہے۔

پاکستان نے جولائی سے نومبر 2020 تک لگاتار پانچ ماہانہ کرنٹ اکاؤنٹ (سی اے) اضافی پوسٹ کیا، اور اس کے بعد کے تین ماہ میں اعتراف کا خسارہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وبا کی امراض کے آغاز کے بعد عالمی اجناس کی قیمتوں میں تیزی سے کمی کے دوران برآمدات اور ترسیلات زر میں کمی کے بغیر (کوڈ کے آغاز میں متوقع) ایپورٹ کی وجہ سے یہ ممکن ہوا۔ اعلیٰ کارکنوں کے ساتھ ملک نے 8MFY21 (بمقابلہ ایک سی اے خسارہ -CAD) میں 8MFY21 of US\$881 mrvs (GDP ÷ 0.5%) کی کرنٹ اکاؤنٹ (CA) کی سرپلس رجسٹر کر دی ہے۔ بیرونی کھاتہ کی بہتری کے پیچھے ترسیلات زر (ترسیلات زر) YoY ÷ 24 جو، ایڈیشنل 3.6 بلین امریکی ڈالر ایڈیشنل 3.6 بلین ہے) ہیں (فروری 21 میں ترسیلات زر میں 2.2 بلین امریکی ڈالر رہ گئے ہیں۔ نوں مینے کے لئے امریکی ڈالر 2 ارب ڈالر سے زیادہ)۔ مشترکہ کامیاب جائزوں کے بعد پاکستان کو آئی ایم ایف خرچ آئی ایس 499 ملین ڈالر ملنے کے ساتھ ہی 21 کوارٹر (3QFY21) ختم ہوا۔

9MFY21 کے دوران، امریکی ڈالر/ پی کے آر کی برابری میں 2.2% کی معمولی کمی ریکارڈ کی گئی۔ اس ترقی کی حمایت صرف مئی 21 کے مہینے میں 3.81% کی تعریف کے ساتھ ہوئی کیونکہ باقاعدہ چینلز (ترسیلات زر اور ڈیجیٹل اکاؤنٹ (آر ڈی اے) نے ایک اہم کردار ادا کیا) کے ذریعہ ساختی شفتوں نے اجناس سے متعلق دباؤ کا مقابلہ کیا۔

جون 2010 کے بعد ہونے والی تمام مالیاتی پالیسی مہینوں میں، اسٹیٹ بینک نے اعلیٰ افراط زر کی رہنمائی کے باوجود (جس کی اوسط 8.4% فیصد بمقابلہ

9SBP کے 7% تخمینے کے دوران 8.4 فیصد تھی (پالیسی پالیسی کو 7.0 فیصد پر برقرار رکھا۔ پاکستان نے بھی 1HFY21 کے دوران 0.5 فیصد ایس پی ایل وائے کے مقابلے میں، جی ڈی پی کے 0.7 فیصد کا بنیادی سرپلس برقرار رکھا۔ 9MFY21 اوسط Y/Y / 8.3% / Y/Y کے مقابلے میں جبکہ 9MFY20 SPLY میں 11.5% Y/Y کے مقابلے میں ہے۔ افراط زر کی شرح پڑھنے میں بہتری بنیادی طور پر فوڈ اینڈ ٹیکس میں اوسطا 13% Y/Y میں بہتر ہے جس کے مقابلے میں SPLY میں 17% Y/Y ہے اور اوسط باؤسنگ اینڈ ٹیکس 3.3% Y/Y میں بہتر ہے جبکہ اس کے مقابلے میں SPLY میں 7.4% ہے۔

وبائی مرض کے باوجود، مالی کارکردگی 1HFY21 (جی ڈی پی کے 2.4% کا مالی خسارہ) کے مقابلے میں 1HFY21 (مالی خسارہ 2.5%) میں 0.6% میں ریکارڈ شدہ جی ڈی پی کے 0.7 فیصد کے بنیادی سرپلس کے ساتھ تلی بخش رہی ہے۔ ایف بی آر $PKR2.2tn$ کے 1HFY21 ٹیکس وصولی کا ہدف بھی پورا کیا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایف بی آر $PKR3.29tn$ کے 9MFY21 کے مقابلے ہدف میں $PKR3.39tn$ جمع کیا ہے۔

ایکویٹی جائزہ:

9 ایم ایف وائی 21 کے دوران کے ایس ای 100 اینڈ ٹیکس میں 30 فیصد اضافہ ہوا جس میں بنیادی طور پر حکومت (تعمیرات اور زراعت کے پیکیجیز، جی ڈی پی کا 2.5% فیصد مالیاتی ریلیف پیکیج، قرض موخر) اور ایس بی پی کی طرف سے پالیسی کی مضبوطی شرح کو کم کیا گیا تھا۔ مارچ 2020 کے دوران 625 بی بی پی ایس کے علاوہ اس صنعت کو مختلف لیکویڈیٹی اقدامات اور مراعات کی پیش کش (مجموعی طور پر جی ڈی پی کے 4.8 فیصد) کے آر 1.99 ٹی این کے نتیجے میں وبائی امراض کے دوران مارکیٹ کے جذبات کو فروغ دیا گیا۔

مزید برآں، لاک ڈاؤن پابندیوں میں نرمی نے معاشی نمو کو بحران کی گہرائی کی سطح سے (اعلیٰ تعدد ڈیٹا پوائنٹس کے ذریعے جھلکتی ہوئی) باز یافت کرنے کے قابل بنادیا اور بصیرت مند کارپوریٹ آمدنی کے نقطہ نظر کی نمائندگی کو پہنچایا جہاں مالی سال 21 کے پہلے دوسرے ماہی کے دوران کارپوریٹ منافع نے آمدنی کو بڑھا دیا ہے۔ نتیجے کے طور پر، کے ایس ای 100 اینڈ ٹیکس میں 60 سب سے بڑی کمپنیوں کے مجموعی منافع میں ہر سہ ماہی میں تقریباً 40% Y/Y کا اضافہ ہوا۔ پہلو بہ پہلو، پاکستان میں وبا پھیلنے والا موثر طریقے سے پر قابو پا گیا تھا اور دنیا کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں اس کی شدت کم تھی۔

ایک اہم مثبت بات یہ ہے کہ مارچ 2021 کے آخر میں آئی ایم ایف کے پروگرام کا دوبارہ آغاز ہوا، جس نے 499 ملین امریکی ڈالر (6n ملین امریکی ڈالر کے پروگرام کے تحت 33 فیصد ڈالر کی فراہمی) کی تیسری قسط کا راستہ ہموار کیا۔ تاہم، اس کے لئے پاکستان کو کچھ سخت شرائط پر عمل کرنا پڑا۔ $PKR1.95$ / پونٹ (تمام سلیب) کے ذریعے بجلی کے نرخوں میں اضافہ کیا گیا، کارپوریٹ اور انکم ٹیکس چھوٹ کو ختم کر دیا گیا، اور حکومت کو ایس بی پی ایکٹ میں بحث مباحثے سے گزرنا پڑا، جس میں میڈیا کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے بعد، پاکستان نے 2.5 ملین امریکی یورو بانڈ کا میانی کے ساتھ جاری کر دیے۔ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرسٹ لسٹ میں بھی برقرار رکھا گیا تھا، لیکن 27 جون میں سے لقیہ 3 کاموں کو جون

2021 تک مکمل کرنے کا ہدف دیا گیا ہے۔

جائزہ لینے کے عرصے کے دوران اہم جذبات سے متعلق ڈیمینز، مارچ 21 میں سینیٹ انتخابات کا نتیجہ تھا۔ اگرچہ پی ٹی آئی نے توقع کی ہے کہ سینیٹ میں اکثریت نہیں بن سکی، لیکن سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی (پی ڈی ایم بلاک) کے لئے وزیر دفاع کے وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کے لئے نشست کا خاتمہ ایک اہم دھچکا تھا۔ تاہم، حکومت نے اعتماد کے کامیاب ووٹ کا مطالبہ کر کے اور حماد اظہر کو نیا ایف ایم مقرر کرنے سے فوری طور پر تازہ خدشات کو دور کیا۔ مزید برآں، صادق بختری (جن کی پی ٹی آئی نے حمایت کی) نے پی ڈی ایم کے سینیٹ کی صدارت کے امیدوار کو شکست دی۔ اس طرح حکومت نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اعتماد بحال کرنے اور کنٹرول برقرار رکھنے کے لئے اچھا کام کیا۔ اسی وقت، پی ڈی ایم کے اندر بد نظمی نے اپوزیشن بلاک کو نمایاں طور پر کمزور کر دیا، پیپلز پارٹی نے اتحاد کی دوسری بڑی جماعتوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔

موسم سرما کے مہینوں میں پاکستان کو یو۔ 19 کی دوسری لہر سے بچ گیا، جبکہ دنیا کے دیگر ممالک لاک ڈاؤن کو بحال کر رہے ہیں۔ اگرچہ ویکسین کے وعدے سے ہونے والی پیشرفت نے توقع سے کہیں زیادہ جلد معمول کی واپسی کے امکانات کو روشن کر دیا ہے جو سبجیکٹو مارکیٹ میں اسٹیپ بیک کے ذریعے بھی ظاہر ہوتا ہے، لاجسٹک اور فنڈز کے چیلنجوں کی وجہ سے ویکسین کا بڑے پیمانے پر رول اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں، پاکستان میں ویکسین کارول 3QFY21 میں شروع ہوا۔ تاہم، مارچ 2021 کے آخر تک، کوویڈ-19 کی تیسری لہر نے ملک کو متاثر کیا، جو زیادہ متعدد اور مہلک رہا ہے۔ یہ وائرس کی نئی شکلوں سے منسوب ہے۔ اس کے جواب میں، پاکستان حکومت نے مارچ 2021 کے آخر تک انتخابی لاک ڈاؤن اور نقل و حرکت اور تجارتی سرگرمیوں پر دیگر پابندیوں کا سہارا لیا۔

9MFY21 کی مدت کے دوران، روزانہ کی اوسط ٹریڈ ویلیو اور حجم دونوں میں بالترتیب Y/Y امریکی ڈالر 168mn اور 483mn حصص کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ، کورس میں سرگرمی نمایاں طور پر مسترد ہوئی۔ FIPL، تاہم، بیجکوں، PS&E اور سینیٹ کے شعبے میں مرکز، \$295mn بمقابلہ 130mn\$ امریکی SPLY کے خالص اخراج سے نمایاں طور پر خراب ہوا۔

تشخیصی شرائط میں، اس کے نیچے سے وصولی اور مضبوط قیمت کی کارکردگی کے باوجود، بیٹج مارک کے ایس ای 100 پر کشش انداز میں برقرار ہے جہاں 6.25x کا فارورڈ پی/ای علاقائی اوسط 14.24 کے ساتھ موازنہ کرتا ہے۔ پاکستان نے تاریخی لحاظ سے آگے کی اوسط میں تجارت کی ہے۔ E/P 8x کا 13x اعلیٰ کے ساتھ۔ پاکستان میں ویکسین کی دستیابی سے متعلق مثبت پیشرفت اور اقتصادی معاشی بحالی سے مارکیٹ کے جذبات کو فروغ مانا جائے۔ اس پس منظر میں، توقع کی جا رہی ہے کہ تاریخی ذرائع اور علاقائی ہم مرتبہ کی چھوٹ میں قیمتوں کا حصول جاری رہے گا۔ مارکیٹ آؤٹ لک کے بارے میں بھی وسیع منڈی (+20% سابقہ بیجکوں) کی دوہری ہندسوں کی منافع کی توقعات کی بناء پر منحصر ہے جبکہ 5/76 D/D کا علاقائی اوسط سے کہیں زیادہ 2.59 فیصد سے زیادہ ہے۔

منفی مارکیٹ کا جائزہ:

26 جون 2020 سے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان (پالیسی) کی شرح 7.00 فیصد برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اس نے وبائی امراض کے دوران نمو اور ملازمت کو فروغ دینے کے لئے ایک فعال روش اپنائی ہے۔ اگرچہ مہنگائی کے دباؤ پر قابو پانا 2021 میں ایک چیلنج ہوگا کیونکہ اس سے بجلی کے نرخوں میں ایڈجسٹمنٹ اور سپلائی ضمنی عوامل سے لائے خطرات کا سامنا کرنے کی توقع کی جاتی ہے، توقع ہے کہ سی پی آئی اہداف میں رہے گا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) کے مادی طور پر الٹ کورس کا امکان نہیں ہے اس کی مالیاتی پالیسی پر با مقصد معاشی بحالی تک، ہمارے خیال میں 9MFY21 کے دوران، حکومت نے ٹریڈری بلوں میں 1) 9.83trPKR اور 2) 473.92brPKR پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ میں قرض لیا۔

ایکویٹی فنڈ کی کارکردگی

فیصل ایسٹ ایلوکیشن فنڈ

اس عرصے کے دوران، آپ کے فنڈ نے اس کے بیچ مارک کے 26.98% کے منافع کے مقابلے میں 75.98% کی واپسی پوسٹ کی۔ فنڈ کی نمائش ایکویٹی میں 70.22 فیصد تھی اور اس نے ٹیکنالوجی اور مواصلات، سینٹ، انجینئرنگ، فوڈ اینڈ پراسس کیمز پراڈکٹ اور کیمیکل کمپنیوں پر کے ایس ای 100 کے مقابلے میں زیادہ وزن لیا تھا جبکہ کمرشل بینکوں، فارماسیوٹیکلز، پاور جنریشن پروژن کم موقف اختیار کیا گیا تھا۔ اور آٹوموبائل سیکٹر

فیصل اسٹاک فنڈ

اس مدت کے دوران، آپ کے فنڈ نے اس کے بیچ مارک کے 21.84% کے مقابلے میں 29.31% کی واپسی پوسٹ کی۔ فنڈ کی نمائش 93.61% تھی۔ اس عرصے کے دوران کے ایم آئی -30 کے نسبت زیادہ وزن کے بارے میں کیمیکل، ٹکنالوجی اور مواصلات، انجینئرنگ اور وینا سٹی اور الائیڈ انڈسٹریز کے شعبوں میں کام لیا گیا جبکہ سینٹ، کمرشل بینکوں، آٹوموبائل، پروژن کم موقف اختیار کیا گیا۔ تیل اور گیس کی تلاش اور تیل و گیس مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں۔

فیصل اسلامک اسٹاک فنڈ

زیر جائزہ مدت کے دوران، آپ کے فنڈ نے اس کے بیچ مارک کے 18.72% فیصد کے مقابلے میں 21.37% کی واپسی پوسٹ کی۔ مدت کے اختتام پر ایکویٹی میں فنڈ کی نمائش 95.02% تھی۔ اس دوران کیمیائی، ٹیکنالوجی اور مواصلات، انجینئرنگ، سینٹ کے شعبے پر کے ایم آئی 30 کے نسبت زیادہ وزن کا موقف لیا گیا، جبکہ کھاد اور تیل و گیس کی کھوج کرنے والی کمپنیوں پر بھی وزن کم کیا گیا۔

فیصل اسلامک ڈیڈ سیکویڈ ایکویٹی فنڈ

اس عرصے کے دوران، آپ کے فنڈ نے 32.81% بیچ مارک کے مقابلے میں 38.66% کی واپسی پوسٹ کی۔ ایکویٹی میں فنڈ کی نمائش 93.22 فیصد تھی۔ اس دوران کے ایم آئی 30 کے نسبت زیادہ وزن کے بارے میں سینٹ، کیمیکل، ٹکنالوجی اور مواصلات، انجینئرنگ اور وینا سٹی اور الائیڈ انڈسٹریز کے شعبوں پر اپنا وزن لیا گیا جبکہ کم وزن بینکوں، کھادوں، آٹوموبائلوں، تیل اور گیس کی تلاش اور تیل پراڈکٹ اور گیس مارکیٹنگ کمپنیاں۔

فلسڈ انکم فنڈ کی کارکردگی

فیصل منی مارکیٹ فنڈ

فیصل منی مارکیٹ فنڈ (ایف ایم ایف) نے 9MFY21 کے دوران 6.68 فیصد بیچ مارک کے مقابلے میں 6.70 فیصد سالانہ منافع حاصل کیا۔ زیر جائزہ مدت کے اختتام پر، فنڈ نیجر نے مارچ کرائسٹنگ کے اسٹیبلش خصوصی نرخوں والے AAA اور AA+ شرح شدہ بینکوں کے ڈی پی پروڈکٹ (DP) کا وٹس میں زیادہ تر لیکویڈیٹی برقرار رکھی۔ ICP میں نمائش کم ہو کر 3.57% رہ گئی۔ آگے بڑھنے پر، فنڈ منجمنٹ زیادہ تر لیکویڈیٹی گورنمنٹ ٹی بلوں میں تعینات کرنے کا اور بہتر ایل او پی/سی او آء میں کچھ نمائش لے سکتا ہے جو بہتر درجہ بند ڈی ایف آئی کے ساتھ دستیاب ہوں گے۔

فیصل حلال آمدنی فنڈ

فیصل حلال آمدنی فنڈ (ایف ایچ اے ایف) نے اس کے شیئ مارک کے 3.53 فیصد کے مقابلے میں 9 ایم ایف وائی 21 کے دوران 6.61 فیصد کی سالانہ واپسی حاصل کی۔ اس مدت کے اختتام پر، نقد رقم مختص 78.47 فیصد رہی جبکہ مختصر مدت کے سکوک اور اسلامی کمرشل پیپر میں نمائش بالترتیب 11.43 فیصد اور 8.96 فیصد رہی۔ آگے بڑھنے پر، فنڈ ہینجمنٹ اسلامی بینکوں کے ساتھ روزانہ کی بہتر شرح کے لئے بات چیت کرے گی اور سرمایہ کاری کے دوسرے منافع بخش راستے تلاش کریگی۔

فیصل اسلامک کیش فنڈ

فیصل اسلامک کیش فنڈ (ایف آئی سی ایف) نے 9MFY21 کی مدت کے دوران اس کے شیئ مارک کے 3.51% کے مقابلے میں 6.83% سالانہ منافع حاصل کیا۔ مدت کے اختتام پر، نقد رقم مختص 81.53 فیصد رہی جبکہ اسلامی کمرشل پیپر اور مختصر مدت کے سکوک میں نمائش بالترتیب 14.68 فیصد اور 2.68 فیصد رہی۔ آگے بڑھتے ہوئے، فنڈ ہینجمنٹ کمرشل بینکوں کے ساتھ بہتر روزانہ کی مصنوعات کی شرح کے لئے بات چیت میں ہے اور کلائنٹس کو منافع بخش منافع فراہم کرنے کے لئے مجاز سرمایہ کاری کے اندر مختلف راستوں کی تلاش جاری رکھے گا۔

فیصل فنانشل سیکیورٹی آپریشنز فنڈ

فیصل فنانشل سیکیورٹی آپریشنز فنڈ (ایف ایف ایس ایف) نے 9MFY21 کے دوران 7.34% کے شیئ مارک کے مقابلے میں 6.48% سالانہ منافع حاصل کیا۔ پی آئی بی فلوئرز ریسیڈنگ میکانزم میں تبدیلی کی وجہ سے پی آئی بی فلوئرز میں ٹی ایف سی ہولڈنگز پر دوبارہ تشخیص نقصانات اور پی آئی بی فلوئرز میں ایم ٹی ایم کے نقصانات کے سبب ایڈورڈ فنڈ کی کارکردگی تھی۔ مدت کے اختتام پر، فنڈ نیچر نے زیادہ پیداوار والے ڈی پی اے کاؤنٹ کے ساتھ نمائش کی اکثریت AAA ریٹڈ بینکوں کے پاس کھڑی کردی جبکہ پی آئی بی اور ٹی ایف سی میں نمائش بالترتیب 10.72 فیصد اور 2.33 فیصد رہی۔ آگے بڑھتے ہوئے، ہم توقع کرتے ہیں کہ ہماری فعال تجارتی حکمت عملی کے سبب واپسی مسابقتی رہے گی۔

فیصل ایم ٹی ایس فنڈ

فیصل ایم ٹی ایس فنڈ (ایف ایم ٹی ایس ایف) نے اس کے شیئ مارک کے 7.34 فیصد کے مقابلے میں 9MFY21 کی مدت کے دوران سالانہ 7.90 فیصد منافع حاصل کیا۔ جائزہ لینے کے دوران فنڈ کے سائز میں بڑے پیمانے کے باوجود جہاں جون 2020 کے اختتام پر فنڈ کا سائز پی کے آر 1.00bn سے بڑھ کر پی کے آر 4.59bn رہا، فنڈ نیچر نے ایم ٹی ایس مارکیٹ میں اپنی نمائش کو کم سے کم مطلوبہ 7070 کے قریب برقرار رکھا جو 70 کی ہے مدت کے اختتام پر 75.00% پر کھڑا رہا۔ مستقبل قریب میں، اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بنیادی طور پر آپ کے فنڈ کی پیداوار حاصل کرے گا۔

فیصل گورنمنٹ سیکیورٹیز فنڈ

فیصل گورنمنٹ سیکیورٹیز فنڈ (ایف جی ایس ایف) نے اس کے شیئ مارک کے 7.20 فیصد کے مقابلے میں 9 ایم ایف وائی 21 کے دوران 6.55 فیصد سالانہ منافع حاصل کیا۔ پی آئی بی فلوئرز ریپریٹنگ میکانزم میں تبدیلی کی وجہ سے پی آئی بی فلوئرز میں ایم ٹی ایم نقصانات کی وجہ سے فنڈ کی کارکردگی کو گھٹا دیا گیا تھا۔ مدت کے اختتام پر، فنڈ کے سائز میں کمی کی وجہ سے پی آئی بی فلوئرز میں نمائش 95.71 فیصد ہوگئی۔ آگے بڑھتے ہوئے، فنڈ منظور شدہ سرمایہ کاری کے راستوں میں نمائش کی تیاری جاری رکھے گا اور سرمایہ کاری کی ایک فعال حکمت عملی کے ساتھ پیداوار میں اضافہ کرے گا۔

فیصل سیونگر گروتھ فنڈ

فیصل سیونگر گروتھ فنڈ (ایف ایس جی ایف) نے اس کے بیچ مارک کے 7.34 فیصد کے مقابلے میں 9 ایم ایف وائی 21 کے دوران 6.24 فیصد کی سالانہ واپسی حاصل کی۔ سرکاری سیکورٹیز، ہولڈنگز میں ٹی ایف سی ہولڈنگز اور ایم ٹی ایم نقصانات پر تجربیہ نقصانات سے فنڈ کی کارکردگی متاثر ہوئی۔ استحکام کی حکمت عملی کے ایک اقدام کے طور پر، پی آئی بی کی نمائش میں اضافہ ہوا جبکہ ٹی ایف سی/سکوک میں نمائش برقرار رہی تاہم پھیلاؤ کے لین دین کی نمائش بھی فنڈ میں زیر جائزہ مدت کے دوران کی گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے، فنڈ منافع بخش سرمایہ کاری کے راستوں میں نمائش کی تیاری جاری رکھے گا اور سرمایہ کاری کی ایک فعال حکمت عملی کے ساتھ پیداوار میں اضافہ کرے گا۔

فیصل اسلامک سیونگر گروتھ فنڈ

فیصل اسلامک سیونگر گروتھ فنڈ (ایف آئی ایس جی ایف) نے 9MFY21 کے دوران اس کے بیچ مارک کے 3.72 فیصد کے مقابلے میں 6.70 فیصد سالانہ منافع حاصل کیا۔ زیر جائزہ مدت کے دوران، کارپوریٹ سکوک اور سٹریٹیجک آف مشارک (سی او ایم) کی نمائشوں کو کم کر کے جی او پی ایجرا اسکوک میں نمائش میں اضافہ کیا گیا جبکہ نقد رقم کو برقرار رکھا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے، آپ کا فنڈ مسابقتی منافع کی فراہمی کے لئے اسلامی سرمایہ کاری کے راستوں کی تلاش جاری رکھے گا۔

فیصل انکم اینڈ گروتھ فنڈ

فیصل انکم اینڈ گروتھ فنڈ (ایف آئی جی ایف) نے اس کے بیچ مارک کے 7.66 فیصد کے مقابلے میں 9 ایم ایف وائی 21 کے دوران 6.52 فیصد سالانہ منافع حاصل کیا۔ ٹی ایف سی ہولڈنگز میں بحالی تشخیصی نقصانات اور پی آئی بی ہولڈنگز میں ایم ٹی ایم نقصانات کی وجہ سے فنڈ کی کارکردگی کو گھٹا دیا گیا تھا۔ مدت کے اختتام پر، نقد رقم کی تقسیم 65.80% رہی جبکہ پی آئی بی اور ٹی ایف سی میں نمائش بالترتیب 6.10% اور 26.35% رہی۔ آگے بڑھتے ہوئے، آپ کا فنڈ مسابقتی معاشی زمین کی تزئین میں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔

فیصل اسلامک ایسٹ ایلوکیشن فنڈ

فیصل اسلامک ایسٹ ایلوکیشن فنڈ (ایف آئی اے اے ایف) نے 9MFY21 کی مدت کے دوران اس کے بیچ مارک کے 2.79 فیصد کے مقابلے میں 6.11 فیصد کی مطلق واپسی پوسٹ کی۔ مدت کے اختتام پر، آپ کے فنڈ نے کارپوریٹ سکوک اور جی او پی ایجرا اسکوک میں اپنی نمائش برقرار رکھی۔ آگے بڑھتے ہوئے، آپ کا فنڈ مسابقتی منافع کی فراہمی کے لئے اسلامی سرمایہ کاری کے راستوں کی تلاش جاری رکھے گا۔

فیصل کیش فنڈ

فیصل کیش فنڈ (ایف سی ایف) نے 9MFY21 کے دوران 6.61 فیصد بیچ مارک کے مقابلے میں 6.08% سالانہ منافع حاصل کیا۔ زیر جائزہ مدت کے اختتام پر، فنڈ نیچر نے مارچ کراسنگ کے لئے خصوصی نرخوں کے ساتھ AAA کی درجہ بندی کردہ بینکوں کے ڈیلی پروڈکٹ (ڈی پی) کے کھاتوں میں تمام لیکویڈٹی کو تعینات کیا۔ آگے بڑھنے پر، فنڈ مینجمنٹ ٹریڈری بلوں میں زیادہ ترکیب کو یڈیٹی تعینات کرے گا اور بہتر ایل او پی/COIs میں بہتر نمائش شدہ DFIs کی دستیابی سے مشروط ہو سکتا ہے۔

فنڈز کی کارکردگی

فیصل ایکویٹی پرنسپل پریزرویشن پلان

فیصل ایکویٹی پرنسپل پریزرویشن پلان نے ایف ای ڈی ٹی بنیاد پر اس کے بیچ مارک کے 16.49 فیصد کے مقابلہ میں 17.38 فیصد کی مجموعی واپسی حاصل کی۔ اس فنڈ میں منی مارکیٹ اسکیم میں 50.38 فیصد اور اسلامی سرشار اکوٹی اسکیم میں 47.72 فیصد کی سرمایہ کاری ہوئی۔ آگے بڑھنے پر، فنڈ مینجمنٹ مختلف اعلیٰ پیداوار والے راستوں میں فنڈ مختص کرے گی۔

فیصل شریعہ کیپیٹل پریزرویشن پلان

فیصل شریعہ کیپیٹل پریزرویشن پلان کو ایف آئی ڈی ٹی بنیاد پر اس کے بیچ مارک کے 15.58 فیصد کے مقابلہ میں 14.34 فیصد کی مجموعی واپسی موصول ہوئی۔ مدت کے اختتام پر، شریعت کے مطابق ایکویٹی اسکیم میں آپ کے فنڈ میں سرمایہ کاری کی نمائش 26.88 فیصد رہی، اور شرعی منی مارکیٹ اسکیم 70.38 فیصد رہی۔

فیصل شریعہ کیپیٹل پریزرویشن پلان 2

فیصل شریعہ کیپیٹل پریزرویشن پلان کو ایف آئی ڈی ٹی بنیاد پر اس کے بیچ مارک کے 14.14 فیصد کے مقابلہ میں 16.72 فیصد کی مجموعی واپسی موصول ہوئی۔ ماہ کے اختتام پر، شریعت کے مطابق ایکویٹی اسکیم میں آپ کے فنڈ میں سرمایہ کاری کی نمائش 48.86 فیصد رہی، اور شرعی منی مارکیٹ اسکیم 49.32 فیصد رہی، جس میں ملٹیپلر 3.5x پر مستقل رہا۔

فیصل شریعہ کیپیٹل پروٹیکشن پلان 3

فیصل شریعہ کیپیٹل پریزرویشن پلان نے ایف ای ڈی ٹی بنیاد پر اس کے بیچ مارک کے 14.40 فیصد کے مقابلہ میں 17.05 فیصد کی مجموعی واپسی حاصل کی۔ مدت کے اختتام پر، شریعت منی مارکیٹ اسکیم میں آپ کے فنڈ میں سرمایہ کاری کی نمائش 43.43 فیصد اور شرعی ایکویٹی اسکیم 48.76 فیصد رہی۔ آگے بڑھتے ہوئے، فنڈ مینجمنٹ مختلف اعلیٰ پیداوار والے راستوں میں فنڈ مختص کرے گی۔ ابتداء کے بعد سے ہی ایف ایس سی پی 3 نے بیچ مارک کے مقابلہ میں 25.25% کی واپسی حاصل کی جس کے مقابلے میں 16.37% رہی ہے۔

فیصل شریعہ کیپیٹل پریزرویشن پلان 4

فیصل شریعہ کیپیٹل پریزرویشن پلان کو ایف آئی ڈی ٹی بنیاد پر اس کے بیچ مارک 11.49 فیصد کے مقابلہ میں 12.91 فیصد کی مجموعی واپسی حاصل ہوئی۔ اس مدت کے اختتام پر، شریعت کے مطابق ایکویٹی اسکیم میں آپ کے فنڈ میں سرمایہ کاری کی نمائش 39.52 فیصد رہی، اور شرعی منی مارکیٹ اسکیم 57.73 فیصد رہی۔

فیصل شریعہ کیپیٹل پریزرویشن پلان 5

فیصل شریعہ کیپیٹل پریزرویشن پلان کو ایف آئی ڈی ٹی بنیاد پر 7.15 فیصد کے بیچ مارک کے مقابلہ میں 6.94 فیصد کی مجموعی واپسی حاصل ہوئی۔ شریعت کے مطابق ایکویٹی اسکیم میں آپ کے فنڈ میں سرمایہ کاری کی نمائش 49.16 فیصد اور شرعی منی مارکیٹ اسکیم 48.13 فیصد رہی۔ آگے بڑھتے ہوئے، فنڈ مینجمنٹ مختلف اعلیٰ پیداوار والے راستوں میں فنڈ مختص کرے گی۔

فیصل شریعہ کیپٹل پر یزرویشن پلان 6

فیصل شریعہ کیپٹل پر یزرویشن پلان کو ایف آئی ڈی ٹی بنیاد پر 1.79 فیصد کے بیچ مارک کے مقابلہ میں 2.75 فیصد کی مجموعی واپسی حاصل ہوئی۔ مدت کے اختتام پر، شریعت کے مطابق ایکویٹی اسکیم میں آپ کے فنڈ میں سرمایہ کاری کی نمائش 48.64 فیصد اور شریعت کے مطابق منی مارکیٹ 49.51 فیصد رہی جبکہ ضرب 5.0x پر برقرار ہے۔ آگے بڑھنے پر، فنڈ مینجمنٹ مختلف اعلیٰ پیداوار والے ایونیوم میں فنڈ مختص کرے گی۔

اعتراف

مینجمنٹ کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز پونٹ ہولڈرز کا ان کے قابل قدر تعاون، معاونت اور رہنمائی کے لئے مینجمنٹ، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے انتظام پر اعتماد کے لئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ بورڈ انتظامیہ کمپنی کے ملازمین اور ڈسٹری بیوٹرز کی ان کی لگن اور محنت کے لئے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔

بورڈ اور اس کی طرف سے

ڈائریکٹر

چیف ایگزیکٹو آفیسر

کراچی: 19 اپریل 2021

REPORT OF THE DIRECTORS OF THE MANAGEMENT COMPANY**REPORT OF THE DIRECTORS OF THE MANAGEMENT COMPANY**

The Directors of Faysal Asset Management Limited, the Management Company of the following funds are pleased to present the nine months Report on the operations of the Funds under management along with the condensed interim accounts for the nine months ended March 31, 2021.

EQUITY FUNDS

- Faysal Stock Fund
- Faysal Asset Allocation Fund
- Faysal Islamic Dedicated Equity Fund
- Financial Value Fund
- Faysal Islamic Stock Fund

FIXED INCOME FUNDS

- Faysal Income & Growth Fund
- Faysal Savings Growth Fund
- Faysal Islamic Savings Growth Fund
- Faysal Money Market Fund
- Faysal Financial Sector Opportunity Fund
- Faysal Islamic Asset Allocation Fund
- Faysal MTS Fund
- Faysal Halal Amdani Fund
- Faysal Government Securities Fund
- Faysal Islamic Cash Fund
- Faysal Cash Fund

FUND OF FUNDS

- Faysal Sharia Planning Fund
- Faysal Sharia Capital Preservation Plan
- Faysal Sharia Capital Preservation Plan-II
- Faysal Islamic Financial Planning Fund
- Faysal Sharia Capital Preservation Plan III
- Faysal Sharia Capital Preservation Plan IV
- Faysal Sharia Capital Preservation Plan V
- Faysal Sharia Capital Preservation Plan VI
- Faysal Financial Planning Fund
- Faysal Active Principal Preservation Plan

Economic Review:

A strong coordinated policy response by the government (construction and agriculture packages, fiscal relief package of 2.5% of GDP, debt deferment) and the SBP (lowered key policy rate by 625bps during Mar-Jun'20 besides offering various liquidity measures and incentives to the industry, e.g. TERF) cumulatively worth 4.8% of GDP (PkR1.99tn) and together with relaxation in lockdown restrictions has enabled economic growth to recover from crisis trough levels. Marked improvement in economic activity has been reflected through high frequency data points - local cement/HSD/MOGAS were up 15/16/8%YoY respectively in 8MFY21. In this backdrop, industrial activity has picked up as LSM during Jul'20-Jan'21 rose an encouraging 7.85% Y/Y compared with a decline of 3.36% Y/Y during same period last year. This was broad-based but led majorly by the Construction, Food, Automobiles and Textile sectors.

Pakistan posted five consecutive monthly current account (CA) surplus from July to November 2020, and had moderate deficits in the following three months. This was possible because of lower imports amid sharp decline in global commodity prices following the onset of the pandemic, without any major fallout of exports and remittances (anticipated at the start of Covid-19). The country registered a Current Account (CA) surplus of US\$881mn (0.5% of GDP) in 8MFY21 (vs. a CA deficit - CAD - of US\$2.74bn (-1.5% of GDP) last year), with higher workers' remittances (up 24%YoY, ~US\$3.6bn additional inflows compared to last year) being the key driver behind external account improvement (remittances have clocked in at ~US\$2.2bn in Feb'21 - exceeding US\$2bn for the ninth consecutive month). The Mar'21 quarter (3QFY21) ended with Pakistan receiving IMF tranche of USD499mn after combined successful reviews.

During 9MFY21, the US\$/PKR parity witnessed a slight depreciation of 2.2%. This development was supported by an appreciation of 3.81% in the month of Mar'21 alone as structural shifts with expats remitting through formal channels (remittances and Roshan Digital Account (RDA) played a crucial role) countering pressure from commodity upcycle.

In all the monetary policy meetings post Jun'20, the SBP kept the policy rate unchanged at 7.0% despite many outturns of high inflation (which averaged 8.4% during the 9M vs. SBP projection of 7-9%). Pakistan also maintained a primary surplus of 0.7% of GDP during 1HFY21, compared to 0.5% SPLY. 9MFY21 average Y/Y inflation stood at 8.3% Y/Y compared to 11.5% Y/Y in SPLY (9MFY20). Improvement in inflation reading is mainly due to average food index improving to 13% Y/Y compared to 17% Y/Y in SPLY and average housing index improving to 5.3% Y/Y compared to 7.4% in SPLY.

Despite the pandemic, fiscal performance has been satisfactory with a primary surplus of 0.7% of GDP recorded in 1HFY21 (fiscal deficit of 2.5%) vs 0.6% in 1HFY20 (fiscal deficit of 2.4% of GDP). FBR has also met the 1HFY21 tax collection target of PkR2.2trn. More recently the FBR has reportedly collected PkR3.39tn in 9MFY21 vs. target of PkR3.29tn.

Equities review:

The KSE-100 index rose 30% during 9MFY21 with impetus primarily provided by a strong coherent policy response by the government (construction and agriculture packages, fiscal relief package of 2.5% of GDP, debt deferment) and the SBP (lowered key policy rate by 625bps during Mar-Jun'20 besides offering various liquidity measures and incentives to the industry) cumulatively worth 4.8% of GDP (PkR1.99tn) resultantly buoyed market sentiments during the pandemic.

Additionally, relaxation in lockdown restrictions enabled economic growth to recover (reflected through high frequency data points) from crisis trough levels and brought visibility to an otherwise clouded corporate earnings outlook where corporate profitability reported earnings beats during both of the first two quarters of FY21. As a result, cumulative profits of the 60 largest companies in the KSE-100 index rose by about 40% Y/Y in each quarter. Side by side, the outbreak in Pakistan was effectively quelled and was much less severe compared to other parts of the world.

A major positive was the resumption of IMF program late in the period in March 2021, which paved the way for a third tranche of US\$499mn (taking disbursement to ~33% under the US\$6bn program). For this, however, Pakistan had to comply with some tough conditions. Power tariff was increased by PkR1.95/unit (all slabs), several corporate and income tax exemptions were removed, and the government had to pass debatable revisions in the SBP Act, which faced significant media critique. Following the IMF program resumption, Pakistan successfully issued Eurobonds of US\$2.5bn. Pakistan was also maintained on the FATF grey list, but has been given the target of completing the remaining 3 of the 27 tasks by June 2021.

The major sentiment dampener during the review period was the outcome of the Senate elections in Mar'21. While PTI expectedly did not form a majority in the Senate, the loss of seat for the de facto Finance Minister Dr. Hafeez Sheikh to the ex-PM Yousuf Raza Gilani (PDM bloc) was a key blow. However, the Government quickly appeased fresh concerns by calling a successful vote of confidence and appointing Hammad Azhar as the new FM. Additionally, Sadiq Sanjrani (whom PTI supported) defeated PDM's candidate for Senate Chairmanship. This way the government did well to restore confidence and maintain control in both Houses of Parliament. At the same time, disharmony within the PDM significantly weakened the Opposition bloc, with PPP parting ways from the other major parties of the alliance.

Pakistan survived the second wave of Covid-19 during the winter months, while other countries around the world were reinstating lockdowns. While promising vaccine developments have brightened the prospects of a sooner than expected return to normality also reflected through the snapback in the broad equity market, a mass rollout of the vaccine will be not be as easy due to logistical and funding challenges. In this regard, the vaccine rollout in Pakistan began in 3QFY21. However, by late March 2021, a third wave of Covid-19 has hit the country, which has been more contagious and fatal. This is attributed to new variants of the virus. In response, the Pakistan government resorted to selective lockdowns and other restrictions on movement and commercial activity by late March 2021.

During the period 9MFY21, activity at the bourse rebounded significantly, with average daily traded value and volumes both rising 150% Y/Y to US\$168mn and 483mn shares respectively. FIPI, however, worsened significantly to a net outflow of US\$295mn vs US\$130mn SPLY, concentrated in Banks, E&Ps and Cement sector.

In valuation terms, despite the recovery and robust price performance since its bottom, the benchmark KSE100 remains attractively priced where forward P/E of 6.25x compares favorably with regional average of 14.24x. Pakistan has historically traded at a forward avg. P/E of 8x with a high of 13x. Positive developments on vaccine availability in Pakistan and continued economic recovery should buoy market sentiments. In this backdrop, valuations are expected to continue to catch up to historic means and regional peer discounts. Conviction on market outlook is also firmed up by double digit profitability expectations of the broader market (+20% ex-Banks) while D/Y of 5.76% far exceeds the regional average of 2.59%.

Money Market review:

Since, 26th June 2020, the State Bank of Pakistan (SBP) has been maintaining the policy rate at 7.00%. It has undertaken a proactive approach to promote growth and employment during the pandemic. Even though controlling inflationary pressures will be a challenge in 2021 as it is expected to face upside risks from electricity tariff adjustments and supply side factors, CPI is expected to remain within targets and the State Bank of Pakistan (SBP) is unlikely to materially reverse course on its monetary policy until meaningful economic recovery, in our view. During 9MFY21, the Government borrowed 1) PkR 9.83tn in Treasury Bills and 2) PkR 473.92bn in Pakistan Investment Bonds.

EQUITY FUNDS PERFORMANCE

Faysal Asset Allocation Fund

During this period, your fund posted a return of 75.98% against its benchmark return of 26.98%. The fund exposure was 70.22% in equities and had taken an overweight stance relative to KSE-100 on Technology & Communication, Cement, Engineering, Food & personal care products and Chemical companies whereas an underweight stance was taken on Commercial Banks, Pharmaceuticals, Power Generation and Automobile sectors

Faysal Stock Fund

During this period, your fund posted a return of 46.04% against its benchmark of 24.36%. The fund exposure was 51.31%. During this period overweight stance relative to KSE-100 was taken on the Cements, Technology, Engineering and Vanaspati and Allied Industries sectors whereas, the underweight stance was taken on Commercial Banks, Oil and Gas Exploration Companies, Fertilizers, Oil and Gas Marketing Companies, Power Generation and Distribution and Pharmaceutical sectors.

Faysal Islamic Stock Fund

During this period, your fund posted a return of 29.31% against its benchmark of 21.84%. The fund exposure was 93.61%. During this period overweight stance relative to KMI-30 was taken on the Chemical, Technology & Communication, Engineering and Vanaspati and Allied Industries sectors whereas, the underweight stance was taken on, Cements, Commercial Banks, Automobile, Oil & Gas Exploration and Oil & Gas Marketing companies.

Faysal Islamic Dedicated Equity Fund

During this period, your fund posted a return of 38.66% against its benchmark return of 32.81%. The fund exposure was 93.22% in equities. During this period overweight stance relative to KMI-30 was taken on the Cements, Chemical, Technology & Communication, Engineering and Vanaspati and Allied Industries sectors whereas, the underweight stance was taken on Commercial Banks, Fertilizers, Automobiles, Oil & Gas Exploration and Oil & Gas Marketing companies.

Faysal Financial Value Fund

During this period, your fund posted a return of 7.37% against its benchmark of 5.42%. The fund remained invested in TFCs. Going forward; your fund will also take exposure in other investment avenues keeping in view the economic position of the country

FIXED INCOME FUNDS PERFORMANCE**Faysal Money Market Fund**

Faysal Money Market Fund (FMMF) yielded an annualized return of 6.70% during 9MFY21 relative to its benchmark of 6.68%. At the end of the period under review, fund manager maintained majority of the liquidity in Daily Product (DP) accounts of AAA & AA+ rated banks with special rates for March crossing. Exposure in ICP reduced to 3.57%. Going forward, fund management will be deploying most of the liquidity in Government T bills & may take some exposure in better LOP / COIs subject to availability with better rated DFIs.

Faysal Halal Amdani Fund

Faysal Halal Amdani Fund (FHAF) yielded an annualized return of 6.61% during the period 9MFY21 relative to its benchmark of 3.53%. At the end of the period, cash allocations stood at 78.47% whereas exposures in short term Sukuk and Islamic commercial paper stood at 11.43% and 8.96% respectively. Going forward, fund management will be in negotiations with Islamic banks for a better daily product rate and will be looking for other lucrative investment avenues.

Faysal Islamic Cash Fund

Faysal Islamic Cash Fund (FICF) yielded an annualized return of 6.83% during the period 9MFY21 relative to its benchmark of 3.51%. At the end of period, cash allocations stood at 81.53% whereas exposure in Islamic Commercial Paper and short term Sukuk stood at 14.68% and 2.68% respectively. Going forward, fund management is in negotiations with commercial banks for a better daily product rate and will continue to explore different avenues within the authorized investment to provide lucrative return to the clients.

Faysal Financial Sector Opportunity Fund

Faysal Financial Sector Opportunity Fund (FFSOF) yielded an annualized return of 6.48% during 9MFY21 relative to its benchmark of 7.34%. Adverse fund performance was due to revaluation losses on TFC holdings and MTM losses in PIB floater due to change in PIB floater reprising mechanisms. At the end of the period, fund manager parked majority of exposure with higher yielding DP account with AAA rated banks whereas exposure in PIBs and TFCs stood at 10.72% and 2.33% respectively. Going ahead, we anticipate returns will remain competitive due to our active trading strategies.

Faysal MTS Fund

Faysal MTS Fund (FMTSF) yielded an annualized return of 7.90% during the period 9MFY21 relative to its benchmark of 7.34%. Despite massive jump in fund size during the period under review where the fund size increased from PKR 1.00bn at June 2020 end to PKR 4.59bn at March 2021 end, fund manager maintained its exposure in MTS market near the minimum required level of 70% which stood at 75.00% at the end of the period. In near future, investors' confidence in stock market will primarily derive the yield of your fund.

Faysal Government Securities Fund

Faysal Government Securities Fund (FGSF) yielded an annualized return of 6.55% during the period 9MFY21 relative to its benchmark of 7.20%. Fund performance was diluted due to MTM losses in the PIB floater due to change in PIB floater reprising mechanisms. At the end of the period, exposure in PIB Floater increased to 95.71% due to reduction in fund size. Going forward, the fund will continue to build exposure in approved investment avenues and enhance yields with a proactive investment strategy.

Faysal Savings Growth Fund

Faysal Savings Growth Fund (FSGF) yielded an annualized return of 6.24% during the period 9MFY21 relative to its benchmark of 7.34%. Fund performance was affected from revaluation losses on TFC holdings and MTM losses in government securities holdings. As a measure of consolidation strategy, PIB exposure increased whereas exposure in TFC/Sukuk was maintained however spread transaction exposure was also built in the fund during the period under review. Going forward, the fund will continue to build exposure in lucrative investment avenues and enhance yields with a proactive investment strategy.

Faysal Islamic Savings Growth Fund

Faysal Islamic Savings and Growth Fund (FISGF) yielded an annualized return of 6.70% during the period 9MFY21 relative to its benchmark of 3.72%. During the period under review, exposure in GOP Ijara Sukuk was increased by reducing the exposures of corporate Sukuk and Certificate of Musharika (COM) whereas cash allocation was maintained. Going forward, your fund will continue to explore Islamic investment avenues in order to provide competitive returns.

Faysal Income & Growth Fund

Faysal Income and Growth Fund (FIGF) yielded an annualized return of 6.52% during the period 9MFY21 relative to its benchmark of 7.66%. Fund performance was diluted due to revaluation losses in TFC holdings and MTM losses in the PIB holdings. At the end of the period, cash allocation stood at 65.80% whereas exposures in PIBs and TFCs stood at 6.10% and 26.35% respectively. Going forward, your fund will strive to maximize returns in a competitive macroeconomic landscape.

Faysal Islamic Asset Allocation Fund

Faysal Islamic Asset Allocation Fund (FIAAF) posted an absolute return of 6.11% during the period 9MFY21 relative to its benchmark of 2.79%. At the end of the period, your fund maintained its exposure in corporate Sukuk and GOP Ijara Sukuk. Going forward, your fund will continue to explore Islamic investment avenues in order to provide competitive returns.

Faysal Cash Fund

Faysal Cash Fund (FCF) yielded an annualized return of 6.08% during 9MFY21 relative to its benchmark of 6.61%. At the end of the period under review, fund manager deployed all the liquidity in Daily Product (DP) accounts of AAA rated banks with special rates for March crossing. Going forward, fund management will be deploying most of the liquidity in Treasury bills & may take some exposure in better LOP / COIs subject to availability with better rated DFIs.

FUND OF FUNDS PERFORMANCE**Faysal Active Principal Preservation Plan**

Faysal Active Principal Preservation Plan yielded a cumulative return of 17.38% on the FYTD basis relative to its benchmark of 16.49%. The fund invested 50.38% in the money market scheme and 47.72% in Islamic Dedicated Equity Scheme. Going forward, fund management will allocate the funds in different high yielding avenues.

Faysal Sharia Capital Preservation Plan

Faysal Shariah Capital Preservation Plan yielded a cumulative return of 14.34% on the FYTD basis relative to its benchmark of 15.58%. At the period-end, your fund investment exposure in sharia-compliant equity scheme stood at 26.88%, and the sharia money market scheme stood at 70.38%.

Faysal Sharia Capital Preservation Plan-II

Faysal Shariah Capital Preservation Plan yielded a cumulative return of 16.72% on the FYTD basis relative to its benchmark of 14.14%. At the month-end, your fund investment exposure in sharia-compliant equity scheme stood at 48.86%, and the sharia money market scheme stood at 49.32% with multiplier kept constant at 3.5x.

Faysal Sharia Capital Preservation Plan-III

Faysal Shariah Capital Preservation Plan yielded a cumulative return of 17.05% on the FYTD basis relative to its benchmark of 14.40%. At the period-end, your fund investment exposure in the sharia money market scheme stood at 4.43% and sharia dedicated equities scheme stood at 48.76%. Going forward, fund management will allocate the funds in different high yielding avenues. Since Inception FSCPP 3 yielded a return of 25.25% versus Benchmark return of 16.37%.

Faysal Sharia Capital Preservation Plan-IV

Faysal Shariah Capital Preservation Plan yielded a cumulative return of 12.91% on the FYTD basis relative to its benchmark of 11.49%. At the period-end, your fund investment exposure in the sharia-compliant equity scheme stood at 39.52%, and the sharia money market scheme stood at 57.73%. Going forward, fund management will allocate the funds in different high yielding avenue.

Faysal Sharia Capital Preservation Plan-V

Faysal Shariah Capital Preservation Plan yielded a cumulative return of 6.94% on the FYTD basis relative to its benchmark of 7.15%. At the period-end your fund investment exposure in the sharia-compliant equity scheme stood at 49.16%, and the sharia money market scheme stood at 48.13%. Going forward, fund management will allocate the funds in different high yielding avenues.

Faysal Sharia Capital Preservation Plan-VI

Faysal Shariah Capital Preservation Plan yielded a cumulative return of 2.75% on the FYTD basis relative to its benchmark of 1.79%. At the period-end, your fund investment exposure in the sharia-compliant equity scheme stood at 48.64% and sharia-compliant money market stood at 49.51% with multiplier kept constant at 5.0x. Going forward, fund management will allocate the funds in different high yielding avenue.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors of the Management Company is thankful to unit holders for their confidence on the Management, the Securities and Exchange Commission of Pakistan and the management of Pakistan Stock Exchange Limited for their valuable support, assistance and guidance. The Board also thanks the employees of the Management Company and the Trustee for their dedication and hard work.

For and on behalf of the Board

**Chief Executive Officer
Karachi: April 19, 2021**

Director

